



مورخہ 7 ستمبر سے برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں لاگو ہونے والی تبدیلیاں

برامپٹن، آن (20 اگست 2021) - برامپٹن ٹرانزٹ کے درج ذیل روٹس میں 7 ستمبر 2021 سے تا حکم ثانی کچھ تبدیلیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم لوگوں کو شہر میں زیادہ مؤثر طور پر نقل و حمل فراہم کرتا رہے۔

- **501 زوم کونین:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **502 زوم مین:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے دنوں کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔
- **505 زوم بوویرد:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **511/511A زوم سٹیلیس:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **1 کونین:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ اور اتوار کے دنوں کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔
- **2 مین:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **3/3A مک لافلن:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **4/4A چنگواکوسی:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے اضافی ٹریس کو بحال کر دیا گیا ہے
- **5/5A بوویرد:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔
- **7/7A کینیڈی:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے دنوں کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے شام کے اضافی ٹریس کو بحال کر دیا گیا ہے
- **9 ووڈین:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے شام کے اضافی ٹریس کو بحال کر دیا گیا ہے
- **11/11A سٹیلیس:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ، بروز ہفتہ اور اتوار کے دنوں کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔
- **12 گرینویل:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **13 ایوون ڈیل:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **14/14A ٹوربریم:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **15/ 15A برامیلا:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **16 ساؤتھ گیٹ:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **17 بوڈین:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **19 فرن فارسٹ:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **23 سینٹل ووڈ:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **30 اینریورٹ روڈ:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے ہفتہ اور اتوار کے دنوں کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔
- **31 مک وین:** دوران ہفتہ اور بروز ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **32 فادر ٹوبین:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے اضافی ٹریس کو بحال کر دیا گیا ہے
- **33 پیٹر رابنسن:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **50/ 50A:** دوران ہفتہ کی کثرت میں تبدیلیاں
- **54 کاؤنٹی کورٹ:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ اور بروز ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول۔
- **55 ایلبرن مارکیل:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے شام کے اضافی ٹریس کو بحال کر دیا گیا ہے
- **57 شیروولیس:** سروس پر اعتماد میں بہتری لانے کے لیے دوران ہفتہ کے ایڈجسٹ کردہ شیڈول اور اسکول کے اضافی ٹریس کو بحال کر دیا گیا ہے
- **199 UTM ایکسپریس:** دوران ہفتہ کی سروس بحال کر دی گئی ہے
- **200-217 آئی رائیڈ سکول اسپیشلز:** دوران ہفتہ کی سروس میں تبدیلیاں

بروز پیر مورخہ 6 ستمبر کو لیبر ڈے کے موقع پر برامپٹن ٹرانزٹ اتوار/چھٹی کے دن کی سروس فراہم کرے گی، جبکہ کچھ منسوخ شدہ روٹس پھر بھی مؤثر رہیں گے۔ لیبر ڈے کے موقع پر ٹرمینلز پر موجود کسٹمر سروس کاؤنٹرز بند رہیں گے۔

وقف شدہ سیکنڈری اسکول روٹس کو بروز منگل، 7 ستمبر سے بحال کر دیا جائے گا۔



براہ کرم سفر سے پہلے روٹس کے شیڈول ملاحظہ کر لیں۔ برامپٹن گیٹ وے اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینلز میں ٹرمینل کی عمارت کے اوقات کار صبح 6 تا رات 9 ہوں گے۔ ٹرنٹی کامنز ٹرمینل بدستور بند رہے گا۔ مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں www.bramptontransit.com یا کال سنٹر کو 905.874.2999 پر کال کریں۔ اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔ براہ کرم یاد رکھیں:

- ٹرمینلز اور بسوں کے اندر ماسک پہننا لازمی ہیں، ماسک موزوں طور پر پہننے چاہیں اور ہر وقت آپ کی ناک، منہ اور ٹھوڑے پر موجود ہوں۔
- بیشک اگر آپ نے ماسک بھی پہن رکھا ہو، ٹرمینلز اور بس اسٹاپس پر جسمانی فاصلہ بندی کا خیال رکھیں۔
- سفر کے لیے اپنی ذاتی جراثیم کش اشیاء مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا تولیے وغیرہ اپنے ساتھ لائیں اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔
- اگر آپ بیمار ہیں، تو براہ کرم ٹرانزٹ پر سفر کرنے سے گریز کریں۔ اپنے قریب ترین کووڈ-19 ایسیمنٹ سائٹ پر ٹیسٹ کروائیں اور پبلک ہیلتھ کی ہدایات پر عمل کریں۔

کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

پبلک ہیلتھ کی جانب سے ہدایت کے ساتھ، مسافروں کو یاددہانی کروائی جاتی ہے کہ بسوں اور ٹرمینلز پر ماسک پہننا لازمی ہیں۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔

باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے ملاحظہ کریں www.brampton.ca/COVID19 یا www.bramptontransit.com پر جائیں یا سروس اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں ٹویٹر پر بذریعہ [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔